

ROOTWORDS SURAH WAQIA 1-96

لَوْفَعْتَهَا	خَافِضَةٌ	رُجَّتْ // الرِّجَا	بُسَّتْ	هَبَاءٌ	مُنْبِتًا
و ق ع	خ ف ض	ر ج ج	ب س س	ہ ب و	ب ث ث
جس کے واقع ہونے میں	پست کرنے والی	لڑنے لگے // جو نچال سے	ریزہ ریزہ ہو جائیں	غبار	اڑتے پھریں گے
الْمَشَامَةِ	مَوْضُونَةٍ	بِأَكْوَابِ	أَبَارِقٍ	كَأْسٍ	يُصَدِّعُونَ
ش ا م	و ض ن	ك و ب		ك ا س	ص د ع
باکین ہاتھ	جڑاؤ ہوں گے	آنخوروں کے ساتھ	آفتابے	گلاس	درود سر ہوگا
يُنْزِفُونَ	مَخْضُودٍ	طَلْحٍ	مَنْضُودٍ	مَمْدُودٍ	مَسْكُوبٍ
ن ز ف	خ ض د	ط ل ح	ن ض د	م د د	س ك ب
عقلیں زائل ہوں گی	بے خار	کیلے	تدبید	لمبا لبا	بہتا ہوا
أَنْكَارًا	عُرْبًا	أَنْزَابًا	سَمُومٍ	يَخْمُومٍ	بَارِدٍ
ب ك ر	ع ر ب	ت ر ب	س م م	ح م م	ب ر د
کنواریاں	دل بھانے والی	ہم عمر	لو/لپٹ	سیاہ دھوئیں کے	ٹھنڈا
مُنْزِفِينَ	يُصِرُّونَ	الْجَنِّثِ	فَمَا لِيُونَ	الْهَيْمِ	تَمُنُّونَ
ت ر ف	ص ر ر	ح ن ث	م ل ا	ہ ي م	م ن ي
خوش حال	اصرار کیا کرتے تھے	گناہ	پھر اس سے بھرتا ہوگا	پیاسے اونٹوں	تم پکارتے ہو
بِمَسْنُوقِينَ	تَحْزُنُونَ	تَزْرَعُونَ // الزَّارِعُونَ	خَطَايَا	لَمُعْزَمُونَ	الْمُزْنَ
س ب ق	ح ر ث	ز ر ع	ح ط م	ع ر م	م ز ن
عاجز	تم ہوتے ہو	تم اسے اگاتے ہو	چوراچورا	تاوان پڑ گیا	بادل
أَجَاا	تُورُونَ	الْمُنْتَبِئُونَ	لِلْمُتَّقِينَ	مُدْهِنُونَ	الْخُلُقُومِ
ا ج ج	و ر ي	ن ش ا	ق و ي	د ہ ن	ح ل ق
کھاری	تم ساگاتے ہو	پیدا کرنے والے ہیں	مسافروں کے لیے	سرسری سمجھتے ہو	گل تک
		حَبِئِذٍ	تَصْلِيَةً		
		ح ي ن	ص ل ي		
		اس وقت	داخل ہونا ہے		